

Time: 10 Minutes	Paper Math 4 (T-1)	Total Marks: 10
1st Month, 4th Week, 1st Day		Unit # 1

Q.No.1. Choose the correct option: (6 x 0.5 = 3) درست آپشن کا انتخاب کریں۔

i) If the price of one books is Rs. 250, then the price of 22 books will be:
اگر ایک کتاب کی قیمت 250 روپے ہو تو 22 کتابوں کی قیمت ہوگی:

(a) Rs. 5 555	پے 5 555 روپے	(b) Rs. 5 550	پے 5 550 روپے
(c) Rs. 5 500	پے 5 500 روپے	(d) Rs. 5 000	پے 5 000 روپے

ii) By dividing 3 960 by 68, we will get: 3 960 کو 88 سے تقسیم کرنے سے ہم حاصل کریں گے:

(a) 41	(b) 47	(c) 46	(d) 45
--------	--------	--------	--------

iii) The next term in 6, 18, 30, 42 is : 42, 30, 18, 6 میں اگلی رقم ہے:

(a) 46	(b) 48	(c) 54	(d) 56
--------	--------	--------	--------

iv) What is the product of 245 and 2 ? 245 اور 2 کا حاصل ضرب ہے؟

(a) 390	(b) 420	(c) 450	(d) 490
---------	---------	---------	---------

v) There are 4 500 trees in 90 rows. Each row contains equal number of trees. Find the number of tree in a row:
90 قطاروں میں 4 500 درخت ہیں۔ ہر قطار میں برابر تعداد میں درخت ہیں۔ ایک قطار میں درختوں کی تعداد معلوم کریں:

(a) 100	(b) 10	(c) 5	(d) 50
---------	--------	-------	--------

vi) The product of 743 and 12 is: 743 اور 12 کا حاصل ضرب ہے:

(a) 6 816	(b) 7 016	(c) 8 916	(d) 9 316
-----------	-----------	-----------	-----------

Q.No.2. Solve the following. (2 x 2 = 4) درج ذیل کو حل کریں۔

i) $1\,245 \times 13$

ii) $78\,965 \times 453$

Q.No.3. Find the product. (1.5 x 2 = 3) حاصل ضرب معلوم کریں۔

i) $4\,324 \times 41$

ii) $78\,955 \times 453$

Time: 10 Minutes	Paper Math 4 (T-1)	Total Marks: 10
1st Month, 4th Week, 1st Day		Unit # 1

Q.No.1. Choose the correct option: (6 x 0.5 = 3) درست آپشن کا انتخاب کریں۔

i) If the price of one books is Rs. 250, then the price of 22 books will be:
اگر ایک کتاب کی قیمت 250 روپے ہو تو 22 کتابوں کی قیمت ہوگی:

(a) Rs. 5 555	پے 5 555 روپے	(b) Rs. 5 550	پے 5 550 روپے
(c) Rs. 5 500	پے 5 500 روپے	(d) Rs. 5 000	پے 5 000 روپے

ii) By dividing 3 960 by 68, we will get: 3 960 کو 88 سے تقسیم کرنے سے ہم حاصل کریں گے:

(a) 41	(b) 47	(c) 46	(d) 45
--------	--------	--------	--------

iii) The next term in 6, 18, 30, 42 is : 42, 30, 18, 6 میں اگلی رقم ہے:

(a) 46	(b) 48	(c) 54	(d) 56
--------	--------	--------	--------

iv) What is the product of 245 and 2 ? 245 اور 2 کا حاصل ضرب ہے؟

(a) 390	(b) 420	(c) 450	(d) 490
---------	---------	---------	---------

v) There are 4 500 trees in 90 rows. Each row contains equal number of trees. Find the number of tree in a row:
90 قطاروں میں 4 500 درخت ہیں۔ ہر قطار میں برابر تعداد میں درخت ہیں۔ ایک قطار میں درختوں کی تعداد معلوم کریں:

(a) 100	(b) 10	(c) 5	(d) 50
---------	--------	-------	--------

vi) The product of 743 and 12 is: 743 اور 12 کا حاصل ضرب ہے:

(a) 6 816	(b) 7 016	(c) 8 916	(d) 9 316
-----------	-----------	-----------	-----------

Q.No.2. Solve the following. (2 x 2 = 4) درج ذیل کو حل کریں۔

i) $1\,245 \times 13$

ii) $78\,965 \times 453$

Q.No.3. Find the product. (1.5 x 2 = 3) حاصل ضرب معلوم کریں۔

i) $4\,324 \times 41$

ii) $78\,955 \times 453$